


جانباي گه نارهه مئي ناهه ڪرنا

Parlando di famiglia



✎ Espen Stranger-Johannessen
✉ Billie Cejka Rises
📧 Yasir Tayab
3
🗨️ / Italiano (it)



LIDA Stories

lidastories.net

جانباي گه نارهه مئي ناهه ڪرنا / Parlando

di famiglia

✎ Espen Stranger-Johannessen


✉ Billie Cejka Rises

📧 Yasir Tayab (ur), Andrea Ciasca Marra

(it)



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



”کچھ آپ کا کوئی خندان ہے؟“


...

“Hai una famiglia?”

“È una buona idea. Anch'io spero che i miei figli vadano all'università un giorno.”

...


”میرے بچے اچھے بھلے بنیں۔ اچھے بھلے بنیں۔ اچھے بھلے بنیں۔“
”کسی دن تو یونیورسٹی چلیں گے۔“




“Sì, mio marito ed io abbiamo due figlie e un figlio.”

...

”جی ہاں، میرے شوہر اور میں دو بیٹیوں اور ایک بیٹے ہیں۔“






“میری بھی دو بیٹیاں ہیں، لیکن میں طلاق یافتہ ہوں۔”

...

“Anch’io ho due figlie, ma sono divorziata.”



“وہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ

اسے یونیورسٹی چننا چاہیے۔”


...

“Lui vuole trovare lavoro, ma io invece gli dico di andare all’università.”

”ذہنی طور پر کسی نئی چیز کی تلاش“

...

”Quanti anni hanno le tue figlie?”





”ذہنی طور پر کسی نئی چیز کی تلاش۔ وہ نئی چیز“

...

”Ottimo! Crescono così in fretta. Cosa vuole fare dopo?”

”ذہنی طور پر کسی نئی چیز کی تلاش۔ وہ نئی چیز“






“مید چر نل کی ہے۔ وہ نرسری اسکول جتی ہے۔ مریم دس
نل کی ہے، اس لیے وہ اسکول جتی ہے۔”

...

“Mina ha quattro anni. Va alla scuola
materna. Miriam ha dieci anni e va a
scuola.”



“میرے تھم بچے سکول میں ہیں۔ میرا بیڈا گلے نل
گریجویٹ ہو جائے گا۔”

...

“Tutti i miei figli sono a scuola. Mio figlio si
diploma l'anno prossimo.”